

برائے فوری اجراء

سٹی ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں کاروباروں کو سڑک کنارے سے فروخت میں معاونت فراہم کر رہا ہے

برامپٹن، آن (30 جولائی 2020) – سٹی آف برامپٹن نے اس ہفتے مقامی کاروباری اداروں اور رہائشیوں کی مدد کے لیے ڈاؤن ٹاؤن کے پارکنگ زونز میں سڑک کنارے سے فروخت کی نئی جگہیں متعارف کروائی ہیں۔

جب کاروباروں نے کووڈ-19 کے اثرات سے مطابقت اختیار کی اور اپنی پیشکشوں کو آن لائن منتقل کیا، تو گاہکوں اور کمیونٹی کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے سڑک کنارے سے فروخت اور ڈیلوری کی حوصلہ افزائی شروع کی گئی۔

ڈاؤن ٹاؤن میں پارکنگ کی اضافی طلب کی اہمیت کے پیش نظر اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایسوسی ایشن (BIA) کے ساتھ مشاورت میں، سٹی نے کاروباروں، گاہکوں اور رہائشیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں "لوڈنگ زونز" کو سڑک کنارے سے فروخت کے لیے پارکنگ کے طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ آگاہی پیدا کرنے کے لیے، اب جگہوں کی نشاندہی کے لیے نشانات اور علامات آویزاں کر دی گئی ہیں، جنہیں سڑک کنارے سے خریداری کی جگہوں کے لیے 15 نک منٹ تک پارکنگ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان مقامات میں شامل ہیں:

- 46 کوئین اسٹریٹ ایسٹ
- 12 کوئین اسٹریٹ ایسٹ
- مین اسٹریٹ نارٹھ - گارڈن اسکوائر
- مین اسٹریٹ نارٹھ - ویوین لین
- 24 مین اسٹریٹ ساؤتھ
- 74 کوئین اسٹریٹ ویسٹ

کووڈ-19 کے خلاف اپنے پورے ردعمل کے دوران، سٹی نے مقامی کاروباروں کو ان کی بحالی میں مدد دینے اور ان کے بحفاظت کام کرنے کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات متعارف کروائے ہیں:

- مؤرخہ 13 مئی کو برامپٹن سٹی کونسل نے مقامی معاشی سرگرمیوں کو دوبار شروع کرنے کے لیے سٹی کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر [ایک اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کو منظور کیا](#)۔
- 20 مئی کو سٹی آف برامپٹن نے رہائشیوں کی مقامی خریدنے، کھانے، تحفے میں دینے اور اس کی حمایت کرنے کی ترغیب دینے کے لیے [اپنی "سیورٹ لوکل" مہم کا آغاز کیا](#)۔
- 12 مئی کو برامپٹن [شاپ بیئر](#) پروگرام میں اپنی شرکت کا اعلان کرنے والی کینیڈا کی سب سے پہلی میونسپلٹیوں میں سے ایک تھا۔
- 24 جون کو سٹی نے ریسٹورینٹس اور بارز کو اپنے پیٹریوز کو توسیع دینے اور باہر جسمانی فاصلہ بندی کو برقرار رکھنے کے قابل بنانے کے لیے [اپنے پیٹریوز برامپٹن کا آغاز کیا](#)۔ پیٹریوز پروگرام کے ذریعے، زیادہ رہائشی گرمیوں کے موسم سے لطف اندوز ہونے اور مقامی کاروباروں کی معاونت کرنے کے لیے باہر جانے کے قابل ہوئے ہیں۔ اب تک، پیٹریوز برامپٹن پروگرام کے ذریعے 38 درخواستیں منظور ہو چکی ہیں۔

اقتباسات

"ہم اس عالمی وباء سے گزرتے ہوئے اپنے کاروباروں کی مدد کے لیے تمام تر ممکن اقدامات اٹھاتے رہے ہیں اور سڑک کنارے سے خریداری کے لیے پارکنگ کی یہ نئی جگہیں گاہکوں کو اپنے پسندیدہ مقامی کاروباروں پر بحفاظت خریداری کو آسان بناتی ہیں۔ انہیں مقامی چیزوں کی حمایت جاری رکھیں اور اپنی کمیونٹی اور معیشت کو ان مشکل لمحات سے بحال ہونے میں مدد دیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ہماری اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس ہمارے مقامی کاروباروں کو کووڈ-19 کے اثرات سے گزرنے میں مدد دینے کے لیے ان کے ساتھ قربت میں اور مل جل کر کام کرتی رہی ہے اور ہم صوبے کے دوبارہ کھانے اور بحالی کے مرحلہ 3 میں داخل ہوتے ہوئے اپنی کاروباری کمیونٹی کی مدد کے طریقوں کی تلاش جاری رکھیں گے۔"

- پال ویسیٹیٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5؛ کو چیئر، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس؛ سٹی آف برامپٹن

"سڑک کنارے سے خریداری کے لیے پارکنگ زونز ان اقدامات کی ایک اور مثال ہیں، جو ہم نے پورے شہر میں اپنے مقامی کاروباروں کی معاونت کے لیے اٹھائے ہیں۔ یہ کاروبار ہماری کمیونٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ہماری معیشت کا ایک بنیادی حصہ ہیں۔ یہی اس وقت یہ بات پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم شہر کو کووڈ-19 کے اثرات سے بحال ہونے میں مدد دینے کے لیے مقامی چیزوں کی حمایت کریں۔"

- مائیکل پیلیسیچی، ریجنل کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ کو لیڈ، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس؛ سٹی آف برامپٹن

"کونسل اور سٹی کے عملے نے ہمارے مقامی کاروباروں کی جانب سے کووڈ-19 کے اثرات کے ردعمل کے دوران ان کی معاونت کے پرجدت اور محفوظ طریقوں کی تلاش کی ہے۔ اپنی مقامی کاروباری کمیونٹی اور اہم فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے کے ذریعے، ہم برامپٹن میں مکمل طور پر معمولات زندگی کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کو ممکن بنانے کے لیے نئے حل تلاش کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

--30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca